

رُبَاعِیَات

از

(جناب شارق میر کھٹی ایم۔ اے۔)

ٹکڑے

سہنس سہنس کے شراب درد میں پی ہے افلاس میں بادشاہی میں نے کی ہے
اے گردشِ روزگار مجھ کو دیکھ! میں نے درد جہاں سے ٹکری ہے

مسکرانا ہے ابھی

ہر سازِ ستم پہ گیت گانا ہے ابھی ہر چوٹ پہ دل کی گنگنا ہے ابھی
مغمومِ نظر نہ ہو کہ سجدہ کو شارق ہر زخمِ جگر پہ مسکرانا ہے ابھی

بے رُخی

غنج بھی چمن میں مسکراتے ہی ہے پودے بھی خوشی سے اہلہا ہی ہے
پھولوں کی فسردگی پہ ڈالی نہ نگاہ مرغانِ بہار گیت گاتے ہی رہے

کوئی نہیں

موتی مرے آنسوؤں کے چٹنے والا افسانہِ غم پہ سر کو ڈھننے والا
ہو کوئی، تو دل کا حال آکر سن لے کیا ہے کوئی دل کا حال سننے والا؟